

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن، سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کے لیے پرفارمنگ آرٹس انٹرن شپ اور کوآپریٹو پروگراموں کا آغاز کر رہا ہے

برامپٹن، آن (31 مئی 2021) – سٹی آف برامپٹن بروز ہفتہ مورخہ 5 جون سے سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کے لیے پرفارمنگ آرٹس انٹرن شپ اور کوآپریٹو پروگراموں کا آغاز کر رہا ہے، جو کینیڈا میں اپنی نوعیت کا ایسا پہلا پروگرام ہو گا۔

سیاہ فام اور آبائی آبادی سے تعلق رکھنے والے طلباء کے ذریعے ان کے اپنے لیے ڈیزائن کردہ یہ پروگرام سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کی خدمات کے اعتراف اور ان کو مزید اوپر اٹھانے، ان کے ثقافتی افہام و تفہیم میں اضافے، پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع کی فراہمی اور لائیو پرفارمنگ آرٹس انڈسٹری میں طلباء کو مستقبل کے قیادتی عہدوں کے قابل بنانے اور مستقبل میں ان کے شاندار کیریئر کے حصول کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

مساوات اور معاشرتی اثرات سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ پروگرام ان کی راہ میں حائل ایسی رکاوٹوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو گا جو سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کو فنون لطیفہ میں تربیت اور مواقع کے حصول میں درپیش ہو سکتی ہیں۔ اس پروگرام کو الگومہ یونیورسٹی کی معاونت حاصل ہے اور سٹی آف برامپٹن اس کو لوکل اسکول بورڈز کے ساتھ مل کر منتظم کر رہا ہے۔

پچھلے تین مہینوں کے دوران، پہلے پانچ طالب علم ساتھیوں نے مل کر پائلٹ پروگرام کا آغاز کچھ سرپرستان اور کمیونٹی کے ممبران کیمرون گرانٹ، انجیلا بوئیر اور ڈینیئل آر والٹرز کے علاوہ سٹی کے پرفارمنگ آرٹس کے عملہ کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ اس ٹیم نے آنے والے سالوں کے لیے اس ورجونل پائلٹ پروجیکٹ کا فریم ورک ڈیزائن کرنے کے لیے مل کر کام کیا۔

بروز ہفتہ مورخہ 5 جون کو دن 1 بجے، 2021 کے پائلٹ پروگرام، پروگرام ڈیزائنرز کے طور پر طلباء کے کردار اور اس میں شامل ہونے کے طریقہ کار کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ایک ورجونل پریزنٹیشن میں شرکت کریں۔ therosebrampton.ca ملاحظہ کریں۔

اس پروگرام کے ذریعے 2022 میں یونیورسٹی اور کالج کے درخواست دہندگان کے لیے بامعاوضہ انٹرن شپ پروگرام کی نشست جبکہ ہائی اسکول کے درخواست دہندگان کے لیے کوآپریٹو پروگرام کی چار نشستیں دستیاب ہوں گی۔ سٹی آف برامپٹن کا انٹرنشپ کوآپریٹو پروگرام سٹی کے تنوع اور شمولیت کی حکمت عملی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ کمیونٹی کی توقعات اور تقاضوں کے مطابق متنوع افرادی قوت کی نشوونما اور اس کے لیے رغبت پیدا کی جا سکے۔

برامپٹن کی رنگ برنگی خوبصورت کمیونٹی کی خوشیاں منانا

برامپٹن 14 اور 29 سال تک کی عمر کے 130,600 نوجوانوں کے ساتھ کینیڈا کے کم عمر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس سال، برامپٹن کو ہمارے شہر کی سرکردہ معیشت کی بناء پر [نوجوانوں کے کام کرنے کے لیے RBC کے بہترین شہروں کی فہرست میں شامل](#) 27 شہروں میں سے 18 ویں نمبر پر ایک بہترین شہر قرار دیا گیا ہے۔

مارچ 2020 میں پلے ورکس، ایک پروگرام جس کو پارکس اینڈ ری کریئیشن اونٹیریو کی معاونت حاصل ہے، کی جانب سے سٹی آف برامپٹن کو [یلائٹنیم یوتھ فرینڈلی کمیونٹی](#) کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے جب سٹی آف برامپٹن اور کمیونٹی کے شراکت داروں کی خدمات کا نوجوانوں کی بہترین نشوونما اور ترقی کے مواقع کی شاندار وابستگی کے حوالے سے اعتراف کیا گیا ہے۔

جائے کار اور کمیونٹی میں موجود مسائل کی نشاندہی کرنے اور ان کو دور کرنے کے لیے، برامپٹن سٹی کونسل نے دسمبر 2020 میں ایک [ایکوٹنی آفس قائم](#) کیا، جو تمام افراد کے ساتھ منصفانہ اور مساوی سلوک کو یقینی بنانے اور رہائشیوں کے لیے ایک پُر امن ماحول کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ سیاہ فام کمیونٹی کے خلاف امتیازی سلوک کے خلاف بامعنی کارروائی کرنے اور اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کو باختیار بنانے اور تقویت پہنچانے کے لیے جون 2020 میں سٹی آف برامپٹن نے اپنے پہلے [بلیک افریقن اینڈ کیریبن سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امیورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ](#) کا قیام عمل میں لایا۔

"پرفارمنگ آرٹس میں سیاہ فام اور آبائی نسل سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے لیے شروع کیے جانے والے پہلے یوتھ انٹرن شپ اور کوآپریٹو پروگرام کے آغاز پر برامپٹن کو فخر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ پروگرام سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کی خدمات کے اعتراف اور ان کو مزید اوپر اٹھانے، ان کے ثقافتی افہام و تفہیم میں اضافے، پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع کی فراہمی اور لائیو پرفارمنگ کے شعبے میں طلباء کو مستقبل کے قیادتی عہدوں کے قابل بنانے اور مستقبل میں ان کے شاندار کیریئر کی راہ ہموار کرنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن نوجوانوں کی آوازوں اور ضروریات کو ترجیح دینے کے لیے پرعزم ہے اور اپنے نوجوانوں کے لیے کام کرنے اور ان پر سرمایہ کاری کرنے کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ ان انٹرن شپ اور کوآپریٹو پروگراموں سے نوجوان بے حد مستفید ہوں گے اور مجھے یہ کہنے پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پرفارمنگ آرٹس میں سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کو ایسا پروگرام فراہم کرنے کے حوالے سے برامپٹن کینیڈا کا ایک پہلا شہر ہو گا۔"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5، چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں پر اپنی خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے، سٹی آف برامپٹن ان کے لیے مساوی مواقع کی فراہمی اور ان کے معاشرتی اثرات پر قابو پانے کی اہمیت کا اعتراف کرتا ہے اور ایسی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے جن سے سیاہ فام اور آبائی نوجوان فنون لطیفہ میں تربیت اور مواقع تک با آسانی رسائی حاصل کرتے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کے مقاصد میں سے ایک مقصد سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کے لیے مواقع کی نشاندہی کرنا اور مفید مواقع کو فروغ دے کر انہیں کامیابی کی جانب گامزن کرنا ہے۔ نوجوانوں کی رہنمائی کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا نہایت اہم ہے اور اس کام کے لیے یہ ایک لاجواب پروگرام ہے کیونکہ یہ ان کے لیے ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع پیدا کرنے کی زبردست ترغیب دیتا ہے۔ میں لائیو پرفارمنگ آرٹس انڈسٹری میں ایک مشعل راہ پروگرام کے ثمرات کے امکانات سے پرجوش ہوں اور الگومو یونیورسٹی کی بھی شکرگزار ہوں کہ انہوں نے یہ سب کچھ ممکن بنانے میں بھرپور مدد کی ہے!"

- گونیتھ چیپ مین؛ سینیئر ایڈوائزر بلیک ایگریمنٹ اینڈ کیریئر سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ؛ سٹی آف برامپٹن

"ہماری پرفارمنگ آرٹس ٹیم میں شریک طلباء اور انٹرنز کا خیر مقدم کرنا ہماری کمیونٹی میں سیاہ فام اور آبائی نسل سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی مزید حمایت کرنے کا ایک زبردست موقع ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء پرفارمنگ آرٹس میں ایک شاندار کیریئر تلاش کر سکیں گے، اپنے سیکھنے کے اہداف کو مکمل کریں گے اور برامپٹن میں نوجوانوں کی کامیابیوں کا جشن منانے اور ان کی ترقی کے لیے اختراعی ترغیبات کا سبب بنیں گے!"

- سٹیون شپر، ایگزیکٹو آرٹسٹک ڈائریکٹر، پرفارمنگ آرٹس، سٹی آف برامپٹن

"اس طرح کی ایک انتہائی اہم ترغیب کا حصہ بننے کا موقع پیدا ہونے پر، ہم اس کی جانب ایک پرجوش طریقے سے بڑھیں گے۔ سٹی آف برامپٹن کے پرفارمنگ آرٹس کوآپریٹو اور انٹرن شپ پروگرام طلباء کو اہم نوعیت کی نرم اور سخت مہارتیں پیدا کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرے گا تاکہ نوجوانوں کو آئندہ برسوں میں کیریئر کے لیے تیار رہنے کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جا سکے۔ ہم کسی ایسے پروگرام کا حصہ بننے پر جوش ہیں جو ہماری کمیونٹیوں کے اندر شمولیت، تنوع اور بین الثقافتی تعلیم اور تجربے کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہو۔ ہمیں خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس پروگرام کی حمایت کرنے کے قابل ہوئے ہیں اور ہم اس بات پر بھی انتہائی خوش ہیں کہ برامپٹن میں، برامپٹن کی نشوونما کا حصہ بننے اور نوجوانوں کے سیکھنے کے سفر کے تمام مراحل پر ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں۔"

- کریک فولر، وائس پریزیڈنٹ، گروتھ، انوویشن اینڈ ایکسٹرنل ریلیشنز، الگومو یونیورسٹی

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca